

ZEUS M1  
QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE



**ZEUS | M1**  
R G B  
Optical Gaming Mouse



<English> <Español> <Deutsch>  
<Polski> <Français> <Svensk>  
<Italiano> <Português> <Русский>  
<한국어> <ภาษาไทย> <عَرَبِيَّةٌ>

Thank you for choosing ZEUS M1 optical gaming mouse by GAMDIAS™. The GAMDIAS™ ZEUS M1 optical gaming mouse employs premium micro-processor complemented by 7000 DPI precision-perfect optical sensor. Providing not only impeccable stability, the 8 Macro-Key design enables all combo execution without the need of driver installations. In addition, it offers ergonomics design with textured rubber side grips which provide unparalleled control and perfect facility.

**System Requirements**


- Windows ® XP/Vista /7 /8 /10
- PC with USB port
- Internet connection  
(for HERA software installation)

**Package Contents**

- GAMDIAS™ ZEUS M1 Optical Gaming Mouse
- Multi-language Quick Installation Guide

**Hardware and Software Installation**

1. Plug the GAMDIAS™ ZEUS M1 into your PCs via USB Port.
2. The "found new hardware" notice will appear, please following instruction to complete hardware installation.
3. Log onto the GAMDIAS™ website (<http://www.GAMDIAS.com>) to download the latest version of the HERA application software.
4. Start installing the GAMDIAS™ HERA software by following the on-screen instructions.

**ZEUS M1 Default Settings****Registering Your GAMDIAS™ ZEUS M1 Optical Gaming Mouse**

Please visit [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) for online product registration.

Gracias por elegir el ratón óptico para juegos ZEUS M1 de GAMDIAS™. El ratón óptico para juegos GAMDIAS™ ZEUS M1 utiliza un microprocesador de alta calidad que se complementa con un sensor óptico de 7000 DPI que proporciona una perfecta precisión. Además de su impecable estabilidad, su diseño de 8 teclas de macro permite ejecutar todas las combinaciones de teclas sin la necesidad de instalar ningún controlador. Asimismo, ofrece un diseño ergonómico con agarres laterales de goma texturizados que proporcionan un control incomparable y una perfecta tactilidad.

#### Requisitos del sistema

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC con puerto USB
- Conexión a Internet  
(para instalación de software HERA)


#### Contenido del paquete

- Ratón óptico para juegos GAMDIAS™ ZEUS M1
- Guía de instalación rápida en varios idiomas

#### Instalar el hardware y el software

1. Enchufe su GAMDIAS™ ZEUS M1 en su PC a través de un puerto USB.
2. Aparecerá el aviso "Nuevo hardware encontrado". Siga las instrucciones para completar la instalación del hardware.
3. Inicie sesión en el sitio Web de GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) para descargar la versión más reciente del software de la aplicación HERA.
4. Comience a instalar el software GAMDIAS™ HERA siguiendo las instrucciones de la pantalla.

#### Configuración predeterminada de ZEUS M1



#### Registrar el ratón óptico juegos GAMDIAS™ ZEUS M1

Visite el sitio Web [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) para registrar el producto en línea.

Vielen Dank für den Kauf unserer optischen Gamingmaus GAMDIAS™ ZEUS M1. Die optische Gamingmaus GAMDIAS™ ZEUS M1 arbeitet mit einem modernen Mikroprozessor und einem erstklassigen optischen Sensor mit einer hochpräzisen Auflösung von 7.000 DPI. Neben höchster Zuverlässigkeit überzeugt die Maus auch mit acht Makrotasten für praktische Kombiaktionen, ohne dass spezielle Treiber installiert werden müssen. Das durchdachte ergonomische Design mit griffigen, gummierten Seitenflächen gewährleistet auch in hektischen Spielsituationen eine unerreicht präzise Handhabung.

### Systemanforderungen

- Windows ® XP/Vista /7 /8 /10
- PC mit USB-Port
- Internetverbindung  
(zur Installation der HERA-Software)


### Lieferumfang

- Optische Maus GAMDIAS™ ZEUS M1
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung

### Hardware- und Softwareinstallation

1. Bitte schließen Sie die GAMDIAS™ ZEUS M1 an einen USB-Port Ihres Computers an.
2. Sobald die „Neue Hardware gefunden“-Meldung erscheint befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Abschluss der Hardwareinstallation.
3. Besuchen Sie bitte die GAMDIAS™-Webseite (<http://www.GAMDIAS.com>) und laden Sie sich die aktuellste Version der HERA-Anwendungssoftware herunter.
4. Bitte installieren Sie die GAMDIAS™ HERA Software und folgen und dabei den Bildschirmanweisungen.

### ZEUS M1-Standardeinstellungen



Registrieren der optischen Gaming-Maus GAMDIAS™ ZEUS M1.  
Bitte besuchen Sie zur Online-Produktregistrierung [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com)



Dziękujemy za wybór myszy optycznej dla graczy ZEUS M1 firmy GAMDIAS™. Mysz optyczna dla graczy GAMDIAS™ ZEUS M1 jest wyposażona w wysokiej jakości mikroprocesor oraz zapewniającą doskonałą precyzję czujnik optyczny 7000 DPI. Mysz charakteryzuje niezawodną stabilność, a jej 8 przycisków makr umożliwia wykonywanie wszystkich kombinacji bez konieczności instalacji sterownika. Ponadto jej ergonomiczna konstrukcja z teksturowanymi gumowymi uchwytami bocznymi zapewnia niespotykaną kontrolę i idealne dopasowanie do dłoni.

#### Wymagania systemowe

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- Komputer PC z portem USB
- Połączenie z Internetem  
(do instalacji oprogramowania HERA)


#### Zawartość opakowania

- Mysz optyczna dla graczy GAMDIAS™ ZEUS M1
- Wielojęzyczna skrócona instrukcja instalacji

#### Instalacja sprzętu i oprogramowania

1. Podłącz mysz GAMDIAS™ ZEUS M1 do portu USB komputera PC.
2. Po pojawieniu się komunikatu „Znaleziono nowy sprzęt” wykonaj instrukcje, aby ukończyć instalację sprzętu.
3. Zaloguj się w witrynie GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>), aby pobrać najnowszą wersję aplikacji HERA.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć instalację oprogramowania GAMDIAS™ HERA.

#### Ustawienia domyślne myszy ZEUS M1



#### Rejestracja myszy optycznej dla graczy GAMDIAS™ ZEUS M1

Rejestrację produktu w trybie online należy wykonać w witrynie [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com).

Nous vous remercions d'avoir choisi la souris de jeu optique ZEUS M1 par GAMDIAS™. La souris de jeu optique GAMDIAS™ ZEUS M1 comprend un micro-processeur de pointe et un capteur optique 7000 DPI de précision parfaite. Le design 8 touche-macro fournit une stabilité impeccable et permet toute exécution combinée sans avoir besoin d'installer des pilotes. En plus, il offre un design ergonomique avec prises latérales en caoutchouc granulé qui assurent un contrôle inégalé et une tactilité parfaite.

#### Configuration requise

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC avec port USB
- Connexion Internet  
(par installation du logiciel HERA)


#### Contenu de l'emballage

- Souris optique de jeu GAMDIAS™ ZEUS M1
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues

#### Installation matérielle et logicielle

1. Branchez la GAMDIAS™ ZEUS M1 sur votre PC via le port USB.
2. L'avertissement "Nouveau matériel détecté" apparaît, veuillez suivre les instructions ci-après pour terminer l'installation du matériel.
3. Connectez-vous au site Web GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) pour télécharger la dernière version du logiciel d'application HERA.
4. Commencez l'installation du logiciel GAMDIAS™ HERA en suivant les instructions à l'écran.

#### Paramètres par défaut de ZEUS M1



#### Enregistrement de votre souris optique de jeu GAMDIAS™ ZEUS M1

Veuillez visiter [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) pour enregistrer le produit en ligne.

Tack för att du valt GAMDIAS™ optiska spelmus ZEUS M1. GAMDIAS™ optiska spelmus ZEUS M1 använder en premium mikroprocessor som kompletteras av en optisk sensor med en utmärkt precision på 7000 DPI. Utförandet med 8 makrotangenter erbjuder inte bara en oklanderlig stabilitet, utan aktiverar dessutom alla Combo-utföranden utan att behöva drivrutinsinstallationer. Dessutom erbjuder den en ergonomisk design med texturerade sidohandtag av gummi som erbjuder ojämförbar kontroll och en utmärkt känsla.

#### Systemkrav

- Windows ® XP/Vista /7 /8 /10
- Dator med USB-port
- Internetanslutning (för installation av programvaran HERA)


#### Paketinnehåll

- GAMDIAS™ ZEUS M1 optiska spelmus
- Flerspråkig snabbinstallationsguide

#### Installation av hårdvara och programvara

1. Anslut GAMDIAS™ ZEUS M1 till din dator via en USB-port.
2. Meddelandet "Ny maskinvara har hittats" kommer att visas, följ instruktionerna för att fullfölja maskinvaruinstallationen.
3. Logga in på GAMDIAS™ webbplats (<http://www.GAMDIAS.com>) för att hämta den senaste versionen av programvaran HERA.
4. Börja installera GAMDIAS™ programvara HERA genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### ZEUS M1 grundinställningar



#### Registrering av din GAMDIAS™ ZEUS M1 optiska spelmus

Besök [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) för produktregistrering online.

Grazie per aver scelto il mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS M1. Il mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS M1 monta un microprocessore di qualità associato ad un sensore ottico dalla precisione eccezionale con 7000 DPI. Non solo offre un'impeccabile stabilità, ma grazie agli 8 tasti macro permette tutte le combinazioni senza necessità di installare driver. Inoltre ha un design ergonomico con impugnature laterali di gomma in rilievo che garantiscono un controllo senza precedenti e una precisione perfetta.

**Requisiti di sistema**


- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC con porta USB
- Connessione a Internet  
(per l'installazione del software HERA)

**Contenuto della confezione**

- Mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS M1
- Guida di installazione rapida multilingue

**Installazione hardware e software**

1. Collegare GAMDIAS™ ZEUS M1 al PC tramite la porta USB.
2. Quando appare la notifica "trovato nuovo hardware", seguire le istruzioni per completare l'installazione hardware.
3. Visitare il sito web di GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) per scaricare l'ultima versione del software dell'applicazione HERA.
4. Avviare l'installazione del software GAMDIAS™ HERA seguendo le istruzioni su schermo.

**Impostazioni predefinite di ZEUS M1****Come registrare il mouse ottico per il gaming GAMDIAS™ ZEUS M1**

Visitare il sito [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) per registrare il prodotto online.

Obrigado por escolher o rato ótico para jogos ZEUS M1 da GAMDIAS™. O rato ótico para jogos GAMDIAS™ ZEUS M1 inclui um microprocessador de elevada qualidade complementado por um sensor ótico de alta precisão de 7000 PPP. Oferecendo não só uma estabilidade impecável, o design com 8 teclas macro permite a execução de combinações de teclas sem a necessidade de instalação de controladores. Para além disso, oferece um design ergonómico com painéis laterais em borracha rugosa que proporcionam um controlo sem precedentes e tutilidade perfeita.

**Requerimentos do Sistema**


- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- PC com porta USB
- Conexão de Internet  
(para instalação do software HERA)

**Conteúdos da Embalagem**

- Rato ótico para jogos GAMDIAS™ ZEUS M1
- Guia de Instalação Rápida Multilíngue

**Instalação do Hardware e Software**

1. Conecte o GAMDIAS™ ZEUS M1 em seus PCs pela Porta USB.
2. O aviso de "novo hardware encontrado" aparecerá, siga as instruções para completar a instalação do hardware.
3. Se registre no website GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) para baixar a última versão do software aplicativo HERA.
4. Instale o software GAMDIAS™ HERA seguindo as instruções no ecrã.

**Configurações padrão ZEUS M1****Registar o rato ótico para jogos GAMDIAS™ ZEUS M1**

Visite [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) para registo do produto online.

Спасибо за ваш выбор оптической игровой мыши GAMDIAS™ ZEUS M1, в которую встроен премиальный оптический сенсор, обеспечивающий разрешение 7000 DPI. Мышь ZEUS M1 отличается потрясающей стабильностью, 8-ми-кнопочным эргономичным дизайном, резиновыми вставками по бокам и возможностью работы без установки драйверов.

**Системные требования**


- Windows® XP, Vista, 7, 8, 10
- Компьютер с портом USB
- Подключение к интернету  
( для установки ПО HERA )

**Комплект поставки**

- Игровая оптическая мышь GAMDIAS™ ZEUS M1
- Краткое руководство по установке на нескольких языках

**Установка оборудования и программного обеспечения**

1. Подключите мышь GAMDIAS™ ZEUS M1 к порту USB на компьютере .
2. Отобразится мастер « Найдено новое оборудование ». Выполните инструкции мастера для установки оборудования .
3. Перейдите на веб - сайт GAMDIAS™ ( <http://www.GAMDIAS.com> ) для загрузки новейшей версии программного обеспечения HERA.
4. Установите программное обеспечение GAMDIAS™ HERA, следуя инструкциям на экране .

**Стандартные настройки мыши ZEUS M1****Регистрация игровой оптической мыши GAMDIAS™ ZEUS M1**

Для онлайн-регистрации данного изделия посетите веб - сайт [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com).

GAMDIAS™의 ZEUS M1 옵티컬 게이밍 마우스를 구매해주셔서 감사합니다. GAMDIAS™ ZUES M1 옵티컬 게이밍 마우스는 프리미엄 마이크로프로세서 기술에 7000DPI의 완벽한 정확도의 옵티컬 센서를 갖춰 더욱 완벽해졌습니다. 8개의 매크로 키 디자인은 흠잡을데 없는 안정감뿐만 아니라 드라이버 설치 없이도 올 콤보를 달성할 수 있습니다. 또한, 고급스러운 인체공학적 디자인의 측면 러버 그림으로 비교불가한 컨트롤과 완벽한 그림감을 제공합니다.

### 시스템 요구 사항

- Windows® XP/Vista /7 /8 /10
- USB 포트 포함 PC
- 인터넷 연결 (HERA 소프트웨어 설치용)


### 박스 내용물

- GAMDIAS™ ZEUS M1 광학 게이밍 마우스
- 다국어 빠른 설치 안내서

### 하드웨어 및 소프트웨어 설치

1. GAMDIAS™ ZEUS M1 를 USB 포트를 사용하여 PC 와 연결합니다 .
2. "found new hardware ( 새 하드웨어 발견 )" 알림이 표시되면 지침에 따라 하드웨어 설치를 완료합니다 .
3. GAMDIAS™ 웹사이트 ( <http://www.GAMDIAS.com> ) 에 로그인하여 HERA 애플리케이션 소프트웨어의 최신 버전을 다운로드합니다 .
4. 화면 안내에 따라 GAMDIAS™ HERA 소프트웨어 설치를 시작합니다 .

### ZEUS M1 기본 설정



### GAMDIAS™ ZEUS M1 광학 게이밍 마우스 등록

[www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) 을 방문하여 제품을 등록하십시오 .

ขอบคุณสำหรับการเลือกเมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล ZEUS M1 จาก GAMDIAS™ ผลิตภัณฑ์เมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล GAMDIAS™ ZEUS M1 ใช้ตัวประมวลผลขนาดเล็กระดับพรีเมียมผ่านเซนเซอร์ออปติคัลที่ให้ความละเอียดอย่างสมบูรณ์แบบขนาด 7000 DPI เมาส์ประเภทนี้สามารถให้ไม่ใช่แค่เพียงความเสถียรอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ด้วยการออกแบบปุ่มมาโคร 8 ปุ่มทำให้สามารถสั่งการคอมโบทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ นอกจากนี้ยังให้การออกแบบที่ไปตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยที่จับด้านข้างห่างจากยางผิวไม่เรียบซึ่งให้การควบคุมและการสัมผัสที่นุ่มนวลอย่างไม่มีใครเทียบ

### ความต้องการด้านระบบ

- Windows ® XP/Vista /7 /8 /10
- PC ที่มีพอร์ต USB
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
(สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ HERA )


### รายการสิ่งที่อยู่ในกล่อง

- เมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล GAMDIAS™ ZEUS M1
- คู่มือการติดตั้งฉบับย่อแบบหลายภาษา

### การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

1. เลือก GAMDIAS™ ZEUS M1 เข้ากับเครื่อง PC ของคุณผ่านทางพอร์ต USB
2. คำ แจ้งเตือน "พบฮาร์ดแวร์ใหม่" จะปรากฏขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำ แนะนำ เพื่อดำเนินการติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์
3. เข้าไปที่เว็บไซต์ GAMDIAS™ (<http://www.GAMDIAS.com>) เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน HERA เวอร์ชันล่าสุด
4. เริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ GAMDIAS™ HERA โดยปฏิบัติตามคำ แนะนำ บนหน้าจอลง

### การตั้งค่าเริ่มต้นเมาส์ ZEUS M1



การลงทะเบียนเมาส์เล่นเกมแบบออปติคัล GAMDIAS™ GAMDIAS™ ZEUS M1 ของคุณ  
โปรดไปที่เว็บไซต์ [www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com) เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์



باعألأا سوام فظوى GAMDIAS™ م ZEUS M1 عئوضلا باعألأا سوام رابتخا ىلع مكلا أركش رفوي ىرصب رعشتسمب قفرملا زيمتملا قيقدلا جلاعملا GAMDIAS™ ZEUS M1 عئوضلا نكمي لب بسحف عبئاش هبوشت ال ىذلا تابثلا رفوي ال ةصوب لكل ةطقن 7000 ةلثام ةقد جارپ تيبتت ىلا ةجالحا نود درسلا ويرختلا تاىلمع عيمج ذيفنت نم Macro-Key 8 ميمصت مكحمو ةيطاطم ةيبناج تاكسامب دوزم اچيرم أميمصت مدقي هناف ،كلذ ىلا ةفاضلا ابو .ليغشلتلا ةيلاتم سمل ةساحو هل ليثم ال مكحت رفوي ام

ماظنلا تاابلتم

- Windows ® XP/Vista /7 /8 /10
- USB ذفنبم رتويوبمك زاھج
- تئرتنالاب لاصتالا
- (HERA جم انرب تيبتتلا)


قمزحلا تاىوتحم

- GAMDIAS™ ZEUS M1 عئوضلا باعألأا سوام
- تاغللا ددعتم عيرسلا تيبتتلا لىلد

جماربل او ةزهجالا تيبتت

1. USB ذفنبم ربع كب ةصاخلا رتويوبمكلا ةزهجالا GAMDIAS™ ZEUS M1 لىصوتب مق .
2. ةزهجالا تيبتت لامكلا تاملعتلا عابتا ىجرى ،"found new hardware" ةطخالم رهطتس .
3. رادصا تحدا لىزنتلا GAMDIAS™ (http://www.GAMDIAS.com) بىوعقوم ىلا لوخدلا لىجستب مق .
4. ةشاشلا ىلع ةدوجوملا تاملعتلا عابتا لالخ نم GAMDIAS™ HERA جم انرب تيبتت ىف ادبا .

ZEUS M1 لىضارتفالا تادادعلا



كب صاخلا GAMDIAS™ ZEUS M1 عئوضلا باعألأا سوام لىجست

تئرتنالاب ربع جتئملا لىجستلا www.GAMDIAS.com بىولا عقوم ةراى ىجرى



#### WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for recycling of electrical and electronics equipment, or returned to the supplier for disposal.



#### Directiva WEEE y eliminación de productos

Al final de su vida útil, este producto no debe ser entendido como la basura doméstica o general. Debe ser entregado al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, O devuelto al proveedor para su eliminación.



#### WEEE-Richtlinie & Produktentsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Betriebslebenszeit nicht wie Haus- oder allgemeiner Müll gehandhabt werden. Es muss zur Entsorgung an geeignete Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte oder an den Händler zurückgegeben werden.



#### Dyrektywa WEEE i utylizacja produktu

Po zakończeniu okresu żywotności produktu nie należy traktować go jako odpadu zwykłego ani domowego. Należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu poddania go recyklingowi lub zwrócić dostawcy w ramach procedury usuwania odpadów.



#### Directive WEEE et mise au rebut de l'appareil

A la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ou les déchets habituels. Il doit être déposé dans un centre de tri approprié destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques, ou rapporté au fournisseur pour un traitement adéquat.



#### WEEE-direktiv och produktkassering

När produkten inte går att använda längre bör den inte behandlas som hushålls- eller vanliga sopor. Den bör lämnas på en lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektriska hushållsapparater eller återlämnas till leverantören för kassering.



#### Direttiva RAEE e smaltimento del prodotto

Una volta giunto a fine vita, il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico o generico. Deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici o restituito al fornitore per lo smaltimento.



#### Diretiva WEEE e Eliminação do Produto

No final da sua vida útil, este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Deverá ser entregue num ponto de recolha apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou devolvido ao fornecedor para a respetiva eliminação.



#### WEEE 지침 (WEEE Directive) 및 제품 폐기법

본 제품은 사용 수명이 다한 후 폐기 시 가정용 또는 일반 쓰레기로 취급해서는 안 됩니다. 제품 폐기 시 전기 및 전자제품 재활용 수거함에 버리거나 공급업체에 반환하시기 바랍니다.



ข้อกําหนด WEEE และการแยกกําจัดขยะผลิตภัณฑ์  
เมื่อสิ้น สิ้นอายุ การใช้งาน ของ ผลิตภัณฑ์  
อย่าแยกกําจัดผลิตภัณฑ์นี้ กับขยะภายในครัวเรือนหรือขยะทั่วไป  
ควรถูกจัดการผ่านจุดเก็บรวบรวมขยะสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
หรือส่งคืนไปยังผู้ขายเพื่อแยกกําจัดขยะต่อไป



جنتم نام صلختالو اونیورٹکلال او بیبره ککال ادعمل ال فلفم عئال  
لماعتل مئی امک عیضارتالو ادمه اناهه یف جنتم ال اذه عم لماعتل یغبئی ال  
لباقل عطقل عیعمج ناکمل هم یلسئ یغبئی. عماعل او لیلزنم ال ائیافنل عم  
روم ال ال اوعار و ائیورٹکلال او بیبره ککال ادعمل ریوئ اداعل مادختس ال  
اهن صلختالو.



Gaming Art in Motion

© 2018 GAMDIAS Technology Co., Ltd. All rights reserved. All GAMDIAS trademarks and logos are registered trademarks of GAMDIAS Technology Co., Ltd. All other trademarks and logos presented in this material are the property of their respective owner. GAMDIAS Technology Co., Ltd. reserves the right to revise the specifications mentioned on this packaging.

[www.GAMDIAS.com](http://www.GAMDIAS.com)



**GAMDIAS**

GAMING ART IN MOTION